

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَبیَاتٌ مِّنْخَبَةِ مِنَ الْقَصِیْدَةِ الْمُبَارِكَةِ

الَّتِی صَنَفَهَا

الدَّاعِیُّ الْاَجَلُ سَیْدُنَا وَمَوْلَانَا طَاهِرٌ سَیْفُ الدِّیْنِ ^{مَرْض}

مَوْلَانَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ

دَعْوَةٌ فِی نِزْبَانِ مَا فَحْوَى نَاسَاتِهِ

مولانا فاطمہ الزہراء ، بتول تھا ، پاک تھا ،	۱	مُولَاتُنَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ
		كَانَتْ بَتُولًا بَرَّةً طَهْرًا

قُدُسُ نَاسِتَارِهِ ، زُہرۃ ، کہ جہ ماسی اپنا فرزندو روشن ستارہ اُطلوع تھی ،	۲	زُہْرَةُ قُدُسٍ اَطَّلَعَ اللهُ مِنْ
		غُرِّ بْنِهَا اَنْجُمًا زُہْرًا

نبوۃ نامجد و شرف ناکیارہ ، کہ جہ ما خدا یہ کتنا مہکتا ہو چن کھلایا ،	۳	رَوْضَةُ مَجْدٍ نَبَوِيِّ وَكَمْ
		اَنْشَأَ فِيهَا رَبُّهَا زُہْرًا

پنجتن نا پانچا ، اہل الکساء نا پانچا جہ کساء - تطہیر نی چادر - یہ پنجتن نے سانروا رکھے ،	۴	خَامِسَةُ الْخَمْسَةِ اَهْلِ الْكِسَاءِ
		كِسَاءِ تَطْهِيرٍ بِهِمْ اٰخَرِي

"بضعة" - کلیجہ نا تکرہ ، کونا؟ کہ جہ صاحب بنو آدم نا ، تمام لوگو نا سردار رکھے ، انبیاء نا سردار رکھے ،	۵	بَضْعَةٌ مِنْ سَادِ بَنِي اٰدَمِ
		طُرًّا وَسَادَ الْبُشْرِ وَالنُّذْرًا

علی المرتضیٰ حیدر نا قصر نی زینتہ تھا ، عجب بلند تریر قصر رکھے ،	۶	كَانَتْ لِقَصْرِ الْمُرْتَضَى حَيْدَرِ
		زَيْنَتَهُ اَرْفَعُ بِهِ قَصْرًا

حسن حسين نے اپنے وحی نادر دھسی ، قدسی دودھسی دھرایا ، عجب نفیس یر دودھچھے ،	۷	لِلْحَسَنِینِ	أَرْضَعَتْ	دَرَّهَا	ال
			قُدُسِيَّ	مَا	أَنْفَسَهُ
			دَرَّأَ		

بدامۃ یر اپنا اوپر ظلم کیدو ، کھی بدامۃ ، کہ جہ یر اہنو ایمان کفر ما بدلی ناکھو ،	۸	مَظْلُومَةً	مِنْ	أُمَّةٍ	قَدْ
			وَبَدَّلَتْ	إِيْمَانَهَا	كُفْرًا

کتنا مریض نے اپنے شفاء آپی ، کننی مصیبت نے اپنے مؤمن واسطے کشف کیدی ، آسان کیدی ،	۹	كَمْ	مِنْ	مَرِيضٍ	أَبْرَأَتْ
			كَمْ	كَشَفَتْ	لِمُؤْمِنٍ
			ضُرًّا		

آپنولاهوت ، آپنوروح مبارک اسلام نا جوهر ماسی چھے ، اھنی قدر بلند چھے ، مقام عالی چھے ،	۱۰	مِنْ	جَوْهَرِ	الإِسْلَامِ	لَا هُوَئِهَا
			مِنْ	ذِكْرًا	عَلَا
			ذِكْرًا	قَدْرًا	عَلَا

آپنونا سوت ، آپنوجسم مبارک جنہ نا پھل ماسی چھے ، اھنواصل پاک چھے ، خشبومہکتی چھے ،	۱۱	مِنْ	ثَمَرِ	الْفِرْدَوْسِ	نَاسُوتِهَا
			مِنْ	ذِكْرًا	نَشْرًا
			ذِكْرًا	نَجْرًا	ذِكْرًا

مولاتنا فاطمہ پاک چھے ، جہ مولاتنا فی طرف ، آروشن حق نی دعوتہ نسبتہ لے چھے ،	۱۲	فَاطِمَةَ	الطُّهْرِ	إِلَيْهَا	أَعْتَدْتُ
			نُسَبُ	هَذِي	الدَّعْوَةَ
			الغَرَّأَ		

لیلة القدر، جاگوانی رات ، آپنا قدرانے مقام پر دلالتہ کرے چھے ، عجب آپنوعظیم مقام چھے ،	۱۳	وَيْلَةٌ الْقَدْرِ عَلَى قَدْرِهَا
		قَدْ مِثَّتْ أَغْظَمَ بِهِ قَدْرًا

آپنا شہزاد او فاطمی امامو چھے ، مصرنا بادشاؤ ، جرنی بھاءنریادہ تھی ،	۱۴	وَمِنْ بَنِيهَا الْفَاطِمِيُّونَ مَنْ
		زَادُوا بَهَاءً إِذْ وَلُوا مِصْرًا

امامویردین دنیا بیوے آباد کیدی ، معروف انے بھلائی نو امر کیدو ، منکرانے بُرائی سی مروکا ، ہدایۃ آپی ،	۱۵	قَدِّعَمَرُوا دِينًا وَدِينًا هُدًى
		قَدْ أَمَرُوا عُرْفًا نَهَوْا نَكْرًا

آپنی نسل مانر پاک امام طیب چھے ، جر مولی شخص فاضل تھا ، نیکتر تھا ،	۱۶	وَمِنْ بَنِيهَا الطَّيِّبُ الطُّهْرُ مَنْ
		قَدْ كَانَ شَخْصًا فَاضِلًا بَرًّا

إمام الزمان طیب ، جر مولی یرآپنا تابع تھا ناروئی نجات واسطے ، نجاتہ نو سفینو جارمی کیدو ،	۱۷	طَيْبٌ عَصْرٍ مَنْ لِاتِّبَاعِهِ
		سَفِينَةَ النَّجَاةِ قَدْ أَجْرَى

یر سفینو دعاة مطلقین نے سوئیو ، جر برکتہ و نثار روشن سردارو چھے ،	۱۸	فَوْضَهَا إِلَى الدُّعَاةِ الْأُولَى
		أَتَوْا مِيَامِينَ سُرًى غُرًّا

میں اپنا سہی امید مراء کھونر چھونر ، اے طه ناکلیجه ناکرا ، اے طه نابضعه ، زیدانے عمر ، فلان دھکنانے نھی امید کرتو ،	۱۹	أَرْجُوكِ يَا بَضْعَةَ طَهَ الرَّضَى
		لَا أَرْتَجِي زَيْدًا وَلَا عَمْرًا

آنو غلام ، گھنوشکر کرونر چھونر ، آنا فضل نی ، اے مصطفی نی شہزادی ، ہمیشہ ذکر کرونر چھونر ،	۲۰	عَبْدُكَ هَذَا شَاكِرٌ ذَاكِرٌ
		فَضْلِكَ بِنْتُ الْمُصْطَفَى شُكْرًا

آپ وہ غلام نے پرامی لو ، جر غلام اپنا پاک سرپر ، لاچار تھنی نے آیو چھونر ،	۲۱	تَدَارِكِي عَبْدًا إِلَىٰ بَابِكَ الْ
		طَّاهِرٍ قَدْ يَمَمٌ مُضْطَرًّا

آپ مرحمة انے کرم کری اھنے پرامی لو ، اے مولانا فاطمة ، اھنا گناھو بخشی دو ،	۲۲	تَدَارِكِيهِ كَرَمًا رَحْمَةً
		عَفْوًا لَهُ مَوْلَاتِنَا غَفْرًا

اے مولانا فاطمة ، آپ اھنا پرا احسان کرو مینہ کرو ، اھنی دھلائی نے سھلائی ما بدل کری دو ،	۲۳	مَوْلَاتِنَا تَفْضِيلِي وَآمْنِي
		وَبَدَلِي الْعُسْرَ لَنَا يُسْرًا

آنا مقدس جنتی اکسیری ، ھماری طبع نو سیسو ، آپ سونو بناوی دو ،	۲۴	وَصَيِّرِي فَضْلًا بِأَكْسِيرِكَ الْ
		قُدْسِيَّ مِسَّ طَبْعَنَا ثَبْرًا

آپ خدا تعالیٰ عرشِ ناصحابِ نازدیک ، ہماری شفاعت کرجو ، جیوارے ہمنے قبر ماسی اھاواما آوے ،	۲۵	كُونِي لَنَا شَفِيعَةً عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
		اِنْشَرْنَا نَشْرًا

اے مولانا فاطمہ البتول ناشہزادہ ، اے مارا رب انے سردار ، شفقتہ کرنا ، مرحمتہ کرنا ، بھلائی کرنا ،	۲۶	يَا بَنَ الْبَتُولِ الطُّهْرِ يَا رَبِّي الْاَعْلَى
		الرَّءُوفَ الرَّاحِمَ الْبِرَّ

آپنوا غلام ، آپنوا غلام چھے ، آپنی تائید انے یاری سی اھنے نولنریدو ،	۲۷	عَبْدُكَ ذَا عَبْدِكَ فَاعْفِرْ لَهُ
		اَحْسِنُ لَهُ التَّائِدَ وَالتَّصْرًا

اھنا گناھونوزن ہلکو کری دو ، ایوا گناھ کہ جرناسی کھرتوتی جائی ، آپنا دین فی خدمتہ واسطے اھنوسینوشرح کرو ،	۲۸	ضَعُ عَنهُ وِزْرًا مُنْقِضًا ظَهْرَهُ
		وَاشْرَحْ لَهُ لِدِينِكَ الصَّدْرًا

خدا تعالیٰ اپنا اوپر صلوات پرهجو ، جھانر لگن وجلی آسمان ما چمکتی رہے ،	۲۹	صَلَّى عَلَيْهَا اللَّهُ مَا بَارِقُ
		لَا حَ سَنَا وَشَارِقُ ذَرًا

خدا اپنا اوپر ، انے اپنا آل فرزند اوپر صلوات پرهجو ، جھانر لگن آسمان سی بارش ورسٹورھے ،	۳۰	صَلَّى عَلَيْهَا وَعَلَى آهَآ
		مَا دَرَّ بِالْغَيْثِ السَّمَآ دَرًا